

بھوکھا مگر مچھ

## Le crocodile qui avait très faim

-  Christian G.
-  Wiehan de Jager
-  Samrina Sana
-  Urdu / French
-  Level 1

(imageless edition)



ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بھوکا مگر مچھ تھا۔

...

Il était une fois un crocodile  
qui avait très faim.

اُس نے آہستہ اور خاموشی سے کھانے کی

تلاش کی۔ اور پھر۔۔۔

...

Il cherchait de quoi manger,  
doucement et sans faire de  
bruit. Et soudain ...

آہ! مگر مجھ نے حملہ کیا۔

...

TCHAK !!! Le crocodile attaque !

اس کے بعد وہ بھوکا نہیں رہا، اب وہ خوش  
ہے۔

...

Après cela sa faim est calmée,  
et il est content.

جب تک کہ وہ دوبارہ بھوکھا نہیں ہو جاتا۔

...

Jusqu'à ce qu'il ait faim de  
nouveau.



# Storybooks Canada

[storybookscanada.ca](http://storybookscanada.ca)

بھوکھا مگر مچھ

## Le crocodile qui avait très faim

Written by: Christian G.

Illustrated by: Wiehan de Jager

Translated by: (ur) Samrina Sana, (fr) Marianne Pasty-Abdul Wahid, Translators without Borders

This story originates from the African Storybook ([africanstorybook.org](http://africanstorybook.org)) and is brought to you by [Storybooks Canada](http://Storybooks Canada) in an effort to provide children's stories in Canada's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons  
[Attribution 3.0 International License](http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).